

24 جنوری 2019

گور میڈوز کی چھت والی بیرونی آئس رنک کی کے باضابطہ عظیم الشان افتتاح کا جشن منائیں!

رہائشیوں اور سیاحوں کو رین کاتنے کی تقریب اور برامپٹن میں چھت والے پہلے بیرونی آئس رنک پر
دلکش سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے تشریف لانے کی دعوت دی جاتی ہے۔

برامپٹن، آن - برامپٹن کے نئے چھت والے بیرونی آئس رنک پر خاندانوں کے لیے مفت لطف سے بھری دوپہر کے لیے اپنا سامان باندھیں
اور اسکیٹس لے آئیں!

بروز اتوار 3 فروری 2019 کو دن 1 سے شام 4 بجے تک، سٹی آف برامپٹن گور میڈوز کے چھت والے بیرونی آئس رنک پر ایک عظیم
الشان افتتاحی تقریب منعقد کر رہا ہے، جو 10150 گور روڈ پر واقع ہے (گور روڈ پر کیسل مور روڈ سے شمال میں)۔

خاندانوں کو دن 1 بجے رین کاتنے کی ایک باضابطہ تقریب میں شرکت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، جس میں میئر پیٹرک براؤن اور
کونسلرز موجود ہوں گے، جس کے بعد کئی خاندان دوست بیرونی اور اندرونی سرگرمیاں ہوں گی۔

بیرونی سرگرمیوں میں شامل ہیں:

- مفت ہاٹ چاکلیٹ اور کافی
- ٹیم ہارٹنز (Tim Hortons) کی جانب سے پیش کردہ مفت اسکیٹنگ
- مارش میلو روسٹ کرنے کے لیے آگ کے الاؤ
- برف تراشنے کے مظاہرے
- CN کی جانب سے پیش کردہ، MyBrampton# کے ساتھ تصاویر
- سموکس پوٹنری فوڈ ٹرکس (Smoke's Poutinerie Food Truck)، جن سے شرکاء کھانا وغیرہ خرید سکتے ہیں

پوری بیرونی تقریب کے دوران DJ ٹیم موسیقی کی دھنیں بکھیرے گی اور شرکاء برامپٹن ٹرانزٹ کی ایک بس کے اندر گرمائش سے
لطف اندوز ہو سکیں گے۔

گور میڈوز کمیونٹی سنٹر اور لائبریری میں اندرونی سرگرمیوں میں شامل ہیں:

- کیون سلویسٹر (Kevin Sylvester) کی جانب سے دن 2 بجے لائبریری میں ایک آتھر ریڈنگ
- اینربرش ٹیٹوز
- ایک کرافٹس اسٹیشن
- ایک مفت کاتن کینڈی گو اوے
- EB گیمز یوتھ لائونج میں EB گیمز کی جانب سے پیش کردہ مفت ویڈیو گیمز
- فیملی باسکٹ بال اور فیملی زومبا
- برامپٹن فائر پریوینشن ٹیم اور سپارکی دی ڈاگ سے ملاقات

برامپٹن میں اپنی نوعیت کا چھت والا پہلا بیرونی آئس رنک گور میڈوز کمیونٹی سنٹر اور لائبریری سے ملحقہ 143 ایکڑ رقبہ پر واقع
ہے۔

اس رنک کا منفرد ڈھانچہ جستی اسٹیل اور گلولام (کاتھ کی لکڑی کے قوس دار لٹھے)، جس کے ساتھ دھات سے بنا ہوا ایک ڈیک، ایک
کنکریٹ پیڈ اور پورے ارینا والے بورڈز لگے ہوئے ہیں۔ یہ منفرد چھت اور ڈیزائن مصنوعی برف کو موسمی حالات، خصوصاً سورج سے
بچاتا ہے، جو سرگرمیوں کے دوران برف کو نرم کر سکتا ہے۔

بیرونی رنک کی سہولیات میں معذور افراد کے لیے قابل رسائی دو عدد غسل خانے اور لاکرز کے ساتھ ایک یونیورسل چینج روم بھی موجود ہے۔ کمزور سماعت والے افراد کے لیے اسکیٹنگ کے دوران پہننے کے لیے آواز بڑھانے والی ذاتی ڈیوائسز اور کمزور سماعت والے افراد کے ایئر فونز بھی دستیاب ہیں۔

ٹھنڈے مہینوں میں، رنک کا سائز تفریحی ہاکی، عوامی اسکیٹس، تربیتوں اور شنی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ گرمیوں میں، اس جگہ کو تقریبات، تفریحی پروگراموں، کیمپس اور بال ہاکی کے لیے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔

رنک اب کسی بھی وقت تشریف لا کر شنی کھیلنے اور عوامی اسکیٹس کے لیے دستیاب ہے۔ پروگراموں کے شیڈول کے لیے [یہاں کلک کریں](#)۔ رنک کے لیے کرایہ کی چیزیں لینے کے لیے goremeadows@brampton.ca پر رابطہ کریں۔

گور میڈوز کے چھت والی بیرونی آئس رنک کے باضابطہ عظیم الشان افتتاح کے بارے میں مزید معلومات کے لیے [یہاں کلک کریں](#)۔

اقتباس

"کونسل اور اراکین اور میں گور میڈوز کی چھت والی بیرونی آئس رنک کے باضابطہ عظیم الشان افتتاح کے لیے بہت پر جوش ہیں۔ یہ چھت والی منفرد بیرونی رنک برامپٹن میں اپنی نوعیت کی پہلی چیز ہے۔ اپنا سامان باندھیں، اپنے اسکیٹس لائیں اور ہمارے ساتھ پر لطف خاندان دوست سرگرمیوں سے بھری دوپہر میں شامل ہو جائیں۔

- میئر پیٹرک براؤن

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر، فیس بک، اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca